

فہست مضمون

کتاب مسطاب فکر الغریب بذکر الحبیب معروف بذکر حسینی حصہ دوم

۵۶ هـ

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۴۳۷	نام حضرت شاہ ولایت احمد رضا سولانی متفقہ طریقت کے جو بات	۷۵۰	مکتوبات شنل ضروری ہے۔
۳۴۳۸	(۱) مکتب الیہ کیلئے اقبال خاطر ہی یافت ہے۔	۷۵۲	مشغلوں کے واردات میں لکھنا بہتر ہے۔
۳۴۳۹	(۲) فائدہ مکتوبات کے محفوظ رکھنے کے تعلق اور کتابیہ کی ایک عرضہ اشتہار چینی سولانات و جوابات تعلق یہ واردات و کیفیات۔	۷۵۴	فائدہ مکتوبات کے محفوظ رکھنے کے تعلق اور کتابیہ
۳۴۴۰	نام مشی دہراج الدین صاحب شمسبریں دوقت علی الاداد	۷۵۶	(۳) ابجاوہ کی معنویت۔ یاس و جوان و ایوس کو پا ہ آئندے۔
۳۴۴۱	نام نواب محمد عبدالکریم خاں صاحب ایک خواب کی تفسیر	۷۵۸	(۴) موجودہ حالت بیڑا جاہدہ کے ہے۔ بحالت سلوک کسی بات سے گمراہ چاہیے۔
۳۴۴۲	نام مشی محمد زیر صاحب پاس انہاس کی تفیق پر شانگی گویا جاؤ گل کش	۷۵۹	(۵) کامیابی کی بشارت وغیرہ۔ ذکر قلبی کا طبقہ
۳۴۴۳	(۶) انہاس سلوک کشی جاؤ پر یہ تکار کر رہی ہے کی تائید	۷۶۱	(۷) امام بعد مقدم کو روٹ کی تفسیر میں رقباں کا فیض منقطع اور واقعوں
۳۴۴۴	نیں ہتا وغیرہ۔		(۸) اہمی پر عمل کی تائید۔
۳۴۴۵	(۹) دراں باخبر دھفور۔ دراہیت کا ظہور کشاافت ہے۔		(۱۰) القباض خود بخود ہونا۔ بخواہی کا جاہدہ ہر ہر تابے۔ سلوک میر خواہش کا آنحضرت ہے۔ ظاہری

نام مشی نبیول علی صاحب (۴۵) وظائف بیانی جی گئے کی تکمیل۔ دعائے حضرت اس کاظمیہ قصیدہ غوشیہ کے متعلق تحقیق شفیل قادرید ذکر فی اثبات و دعائے قطب کی تکمیل باب کی قید (۴۶) اداۓ بہرے اور آئے ہوئے ذوق و شوق بیں فرق۔ تصفیہ قلب کا آسان طریقہ۔	۵۱۲	مقضیات عبودیت اور کنا چاہیے۔ (۴۷) تلقین استقلال در صایقضا وغیرہ۔ نام مولوی سید ظہیر علی عروث بیانات علی حسب (۴۸) اسرائیل کا نام عالم کوئی فساد نہ کوئی گیفت سلب نہیں ہوتی۔ (۴۹) دفعیہ اختلاج کیلئے وظیفہ فیطا ف غیرہ پر مادست۔	۷۹۹
نام مولوی بشیر علی صاحب (۴۶) پاس انفاس در فیض خطرات کی تعلیم خطرات تردودات میں بھپس رمشغول ترک نہ کر دے۔	۵۱۳	نام مولوی بشیر علی صاحب (۴۷) پاس انفاس در فیض خطرات کی تعلیم خطرات او سجد کا لورا سمجھے۔	۵۰۵
نام حکیم مولوی وصی علی حسب (۴۸) جشنگت می یگیر فضل شاہ کے معنی۔ مصلحت خداؤندی پر قین رکھے۔	۵۱۴	نام حکیم مولوی محمد احمد صاحب (۴۹) دفعہ شرحدیں کیلئے وظیفہ بجالت کی آمدنی استقلال کی ترغیب۔	۵۰۶
نام مولوی کرم اخفاک کم اور وظیفہ زیادہ ہو کر (۴۹) اعمال و وظائف بیان کے اثر کر تکمیل اسباب۔ دفعہ خطرات کی بیانی عمل۔ ایڈاشکر نیکا سمل اور زیند طریقہ توحید کیا ہے۔ نقی اثبات و اثبات مجدد۔ ادایہ میں قل عواد اللہ پڑھنے کی تقدید اور فیض خطرات کیلئے عمل	۵۱۵	نام مولوی کرم احمد عرفیہ زیر مذکور در (۵۰) دفعہ کندہ ذہنی کیلئے وظیفہ اوسی عمل کی تلقین۔	۵۰۷
نام مشی عبد الرفع صاحب (۴۹) ایک خواب کی تبیر اور ایک وظیفہ کا بیان	۵۱۶	(۵۱) عمل پڑھنے کی مانع۔ قبولیت دعا کیلئے وظیفہ۔ (۵۲) شفیل برزخ کی تعلیم۔ (۵۳) اداۓ قرض کیلئے دعا	۵۱۲

کی بشارت۔ (۴۹) دنیا کے محضیہ نشوی میں خطرہ کا اثر نہ لینا جو کے ساتھ ہے تکلف ہونا۔	۳۶۷	(۴۹) اطاعت میں برزخ قائم کرنا۔ تعلیم قشیدہ و قادریہ میں فرق۔ فتاویٰ مسکنے کی تجیل ذات۔ بہا۔ بھی بھی فائدہ ہوتا ہے۔	۳۸۲
حاشیہ تعلق بہ اوان و مقامات اطاعت (۴۹) اطاعت اور تعامیم محمود۔	۳۶۸	حاشیہ تعلق بہ اوان و مقامات اطاعت (۴۹) حیرت میں خطرات سے حالی الذین ہوتا۔	۳۸۳
توہم کی تائید۔ (۴۹) بعض اہم اساتذہ کی تشرییح۔ اذکار اشراف کے بعض مضامین۔	۳۶۹	توہم کی تائید۔ (۴۹) عاد و نعم عالم اپنے خراب کو تراپ نہیں کرتا۔	۳۸۴
نام حکیم مولوی وصی علی حسب (۴۹) یک خواب کی تبیر خوابیں بارہت کیلئے درود وشعل کشاںیں رزق کی دعا۔	۳۷۰	نام حکیم مولوی وصی علی حسب (۴۹) بزرخ زینتے تکہرے۔ ہر حال میں خوش ہے، جسیں دم کا ایک طریقہ طلب حق میں تکہرے اپنے نقاص معلوم ہوا ماضی نہیں توجیہ کیا جائے ذہن ابھی میں توحید ہے۔	۳۹۱
سری اذکاریں نہیں آتا۔ (۴۹) متعلق عمل دعائے قطب۔	۳۷۱	سری اذکاریں نہیں آتا۔ (۴۹) ایک خواب کی تبیر لذات کی سیرین بارہت تکہرے اپنے کافی کی تکمیل۔	۳۹۲
سے خوب ہوتی ہے۔ (۴۹) طلاق زکوٰۃ تکمیل عاشقان۔	۳۷۲	سے خوب ہوتی ہے۔ (۴۹) طلاق زکوٰۃ تکمیل عاشقان۔	۳۹۳
سمیت و احیاۃ و خلافت۔ نام مولوی حنفی علی صاحب	۳۷۳	سمیت و احیاۃ و خلافت۔ نام مولوی حنفی علی صاحب	۳۹۴
نام مولوی حنفی علی صاحب (۴۹) ریاضات و حجایات سے مقصود خود کی مٹاہر۔	۳۷۴	نام مولوی حنفی علی صاحب (۴۹) دست شفای کیلئے آیت بخشی میں نہیں آتا۔	۳۹۵
پاس انفاس کا ہر وقت جاری رہتا۔ (۴۹) ریاضات و حجایات سے مقصود خود کی مٹاہر۔	۳۷۵	پاس انفاس کا ہر وقت جاری رہتا۔ (۴۹) ریاضات و حجایات سے مقصود خود کی مٹاہر۔	۳۹۶
(۴۹) لطافت میں سیری کی ملیم۔	۳۷۶	(۴۹) دست شفای کیلئے آیت بخشی میں نہیں آتا۔	۳۹۷

(۱۷) پاس انفاس اور بینہ مرشد کی شفعتی کا طریقہ۔	بیان مولیٰ محمد حسن صاحب	قبض و سبیطہ لازم و ملزم ہیں۔
(۱۸) پاس انفاس اور بینہ مرشد کی شفعتی کی تشریع۔	بیان مولیٰ ایوب احمد صاحب	(۱۸) پہنچنے کھنٹنے کو ضرور جانتا شیطانی دوسروں
(۱۹) پاس انفاس اور بینہ مرشد کی شفعتی کی تشریع۔	بیان مولیٰ محمد حسیبا الدین حیدر صاحب	(۱۹) نسل کی خلقت جلدی باز ہے این آں ہیش پڑنا چاہئے
(۲۰) افسوس کے میان میں۔	بیان مولیٰ ایوب احمد صاحب	(۲۰) اپنے ذوق و شوق کی پیشیت۔
(۲۱) حضرت صاحب قبلہ کے چند جملوں کی تشریع۔	بیان مولیٰ محمد حسیبا الدین حیدر صاحب	(۲۱) کالا بیتا رجعون کی تشریع جو شرک مبتدا بُثواب
پرشانی سے گھیرنا چاہیے۔ تکلیر کیلئے سید ہے۔	بیان مولیٰ ایوب احمد صاحب	جسم شانی پر بوجگا۔ قرآن مجید میں تمام حکام دینی دینوں
(۲۲) افسوس و حشت اور اس کا علاج۔	بیان مولیٰ ایوب احمد صاحب	موجود ہیں۔
(۲۳) تعلیم بڑی تکلیر۔ بتایا دبیرادی کا دریش کا علاج۔	بیان مولیٰ ایوب احمد صاحب	(۲۳) ہشتنی کرتے رہنے کی تائید۔
(۲۴) موجودہ پرشانی سے گھیرنا چاہیے۔	بیان مولیٰ ایوب احمد صاحب	(۲۴) سفر لاہور پر دخیر آباد کا تذکرہ۔
(۲۵) جلیست میں تکلیر کو جانے کا علاج۔	بیان مولیٰ ایوب احمد صاحب	(۲۵) پرشان خاطری توحید فارما کرنے سے دفع ہوئے۔
(۲۶) تکلیر بالمل کی تعلیم۔	بیان مولیٰ ایوب احمد صاحب	(۲۶) علاستہ سائی لوشنوں نیتی سے دفع کرے۔ نماز
(۲۷) عورت المعاشر کی ایک عبارت کا مفہوم۔	بیان مولیٰ ایوب احمد صاحب	ذکر و فکر کی ضرورت۔
(۲۸) شبیرات بتریقہ رہبرت شکنگی مرفت کیلئے	بیان مولیٰ ایوب احمد صاحب	(۲۷) حضرت دحیو دی کی سیرہ کافی تکلیر کی ندت۔
سید ہے ثابت قدم رہنا چاہیے۔	بیان مولیٰ ایوب احمد صاحب	(۲۸) مطلق و تقيید و تحدیق مطلق کا میان۔
(۲۹) نفس تابعیت کیا ہے۔	بیان مولیٰ ایوب احمد صاحب	(۲۹) یہ اختیاری اور تکریر کے دفع کرنے کا طریقہ۔
(۳۰) حضرت عراقی کے ایک شعر کی تشریع۔	بیان مولیٰ ایوب احمد صاحب	(۳۰) زمانہ صحنی و حال و تعلیل ایک ہی وجود کیلئے
(۳۱) میں شودوں کی تشریع و معانی۔	بیان مولیٰ ایوب احمد صاحب	ہیں احتساب نفس کرتے رہنا چاہیے۔
(۳۲) العلام حجا اہل کعبہ کی تشریع علم و عقائد کا فرق۔	بیان مولیٰ ایوب احمد صاحب	(۳۲) فرازیں سبھی کی ادیگی محبت کے اطوار۔
نفس اور خودی کی قبولیت۔	بیان مولیٰ ایوب احمد صاحب	(۳۳) کسب معاش کرنا منافی سلوک نہیں حضرت
(۳۴) دلیوگی کے اقسام اور انہی تشریع بسان۔	بیان مولیٰ ایوب احمد صاحب	"

(۳۵) حضور اسلات متعلق بتصوف اور ائمہ جوہرات	بیان مولیٰ ایوب احمد صاحب	(۳۵) چندا عیہ و استغفار کی تعلیم قلب صدور بکار ہے۔
(۳۶) تبلیغت، دعا کیلئے ایک نماز کی تعلیم	بیان مولیٰ ایوب احمد صاحب	(۳۶) درود و شریف پڑیتے ہے حضرت رسالت مسلم کا نصو
(۳۷) اللہ الحمد پڑھنے کی اجازت تین موڑ افیکھ جوہر	بیان مولیٰ ایوب احمد صاحب	(۳۷) رسالتہ ذکارتہ کلیم شد و رذاب اذکار رگ
(۳۸) بعد تذین اور غاغا نہ ناز رجیا ز پڑھنا۔	بیان مولیٰ ایوب احمد صاحب	کیسی دوسرے نو روگ سے رجوع کرنے میں کن کن اور
(۳۹) دنیادی پریشانیوں پر صبر کی تعلیم کشوہ کا کیلئے	بیان مولیٰ ایوب احمد صاحب	کا لاثان ضروری ہے۔
(۴۰) حضور نو روگ سے رجوع کرنے میں کن کن اور	بیان مولیٰ ایوب احمد صاحب	نما حکیم حافظ عبدالجہنم سب
(۴۱) انتہا صحنی حالت رفع ہونے کی تعبیر	بیان مولیٰ ایوب احمد صاحب	(۴۱) انتہا صحنی حالت رفع ہونے کی تعبیر
(۴۲) طریقہ زکوہ یا ماغنی۔ تذکرہ جمیت بادران عزیز	بیان مولیٰ ایوب احمد صاحب	(۴۲) طریقہ زکوہ یا ماغنی۔ تذکرہ جمیت بادران عزیز
و عطا۔ اجازت و خلافت	بیان مولیٰ ایوب احمد صاحب	و عطا۔ اجازت و خلافت
(۴۳) مرائب فنا میں طبیعت زنجیہ کی وجہ۔ خواب	بیان مولیٰ ایوب احمد صاحب	(۴۳) مرائب فنا میں طبیعت زنجیہ کی وجہ۔ خواب
میں زیرت مرشد کا طریقہ۔	بیان مولیٰ ایوب احمد صاحب	میں زیرت مرشد کا طریقہ۔
(۴۴) حالت قبض شخص نہنا چاہیے حق کے صرفا	بیان مولیٰ ایوب احمد صاحب	(۴۴) حالت قبض شخص نہنا چاہیے حق کے صرفا
بانلو تخلصت ہوتے ہیں۔	بیان مولیٰ ایوب احمد صاحب	بانلو تخلصت ہوتے ہیں۔
(۴۵) بیماری اور کالیف بھی جاہر حق ہیں۔ راضی	بیان مولیٰ ایوب احمد صاحب	(۴۵) بیماری اور کالیف بھی جاہر حق ہیں۔ راضی
برضارہنا چاہیئے۔	بیان مولیٰ ایوب احمد صاحب	برضارہنا چاہیئے۔
(۴۶) ذکر و شغل میں بہرہ زدن جانا چاہیے۔ طلاق طلب	بیان مولیٰ ایوب احمد صاحب	(۴۶) ذکر و شغل میں بہرہ زدن جانا چاہیے۔ طلاق طلب
و حالت طلب، و نامزادی کا بیان۔	بیان مولیٰ ایوب احمد صاحب	و حالت طلب، و نامزادی کا بیان۔
(۴۷) عقیلی ایسی کیتے دعاوں کی تعلیم۔	بیان مولیٰ ایوب احمد صاحب	(۴۷) عقیلی ایسی کیتے دعاوں کی تعلیم۔
بیان مولیٰ ایوب احمد صاحب۔	بیان مولیٰ ایوب احمد صاحب	بیان مولیٰ ایوب احمد صاحب۔

۶۱۸	بغیر فضیان الہی نہیں تھا۔ (۱۷۲) مشغول بزیر بس من مرنیکی تاکید بحالاتِ دافتہ کا درود خوب دیداری کے یقینات۔ رس ۸۲۸) خواہش قلی میں رکاوٹ بصلحت ہوتی ہے مشغول سے بخوبی پیدا ہوتی ہے۔	۶۰۶	(۱۳۱) پاس انفاس کرئیں تاکید۔ ہبہ بنن طلاقی عبادت خوشیدا جنیش دغیرہ محسوس ہبہ کر شبل کے بکالے گرد (۱۳۲) ذات حق کرتام عالم بخطی بحضا۔ تام عالم کوپنے میں لے لینا۔ ذکر اہمات اسمائی خوبی۔ (۱۳۳) ہشاہد ذات کی مشغولی میں لکھیں بند کھنا۔
۶۱۹	(۱۷۳) انوار و حاتی جنیش برقی۔ توجہ اتحادی از دیا مجبت حق کیلئے ذکر اور مرافقہ معنید ہیں۔ آزادیں سنتا۔	۶۰۷	ایک خواب کی تعبیر۔
۶۲۰	(۱۷۴) مشغول کی تاکید۔ توحید دینے والا قبل طبیب کے ہو۔ (۱۷۵) حالات گریم برخیز ہے اور بخراگاہ ایزدی میں مقبول ہے۔	۶۱۰	(۱۳۴) تظارجانے کا غصوم او ر طلاقیہ۔ شاہد کہ ذات کی شبل (۱۳۵) حصول عینیت ادا طاہلی اور تظارقام کرنیکے طلاقیہ۔
۶۲۱	(۱۷۶) الوان کی تشریک مشغولی میں معمول سے نادر وقت صرف کرنے میں اور اوراد مااضیہ کی مژالت میں ہرج نہیں۔	۶۱۱	پیرو مرشد کی ذات میں فناہ بنا فیض حسی فیض می۔ (۱۳۶) انشاد کرنیوالا تقدیرات دنیوی میں مبتلا ہوتا ہے۔ مشغول اور ذکر جاذب عنایت ہیں۔
۶۲۲	(۱۷۷) نفحات المیہ د فیض صریح لائش کی تعریف۔ مرقاہ د خواب میں آواز سننے میں کیا فرق ہے۔	۶۱۲	(۱۳۷) نفحات المیہ د فیض صریح لائش کی تعریف۔ مرقاہ د خواب میں آواز سننے میں کیا فرق ہے۔
۶۲۳	(۱۷۸) اسم ذات کا معمول رکھنا۔ اقتضاض اور انبساط حالات میں جو ہوتے رہتے ہیں۔ ہر عمل کیلئے حصوںی قلب ضروری ہے۔ برکات لیلۃ الفدر کی بشارت	۶۱۳	(۱۳۸) خواب بمشیر سکین کیلئے نظر آئنے ہیں۔ ہوا طاہر ہوا باطن ذکر اسم ذات کا جزو ہے۔ کلم کی تحقیق ظاہر ہر ہنکا طلاقیہ ذکر و فکر ہے۔
۶۲۴	(۱۷۹) سلطان الاذ کار کے اثرات۔ ایسے خجالات بیس پڑنے کی مانفت کفلار خاندان میر کیا طلاقیہ ہے اور فلاں میں کیا جس دم کے ساتھ ذکر کرنے کے فوائد۔	۶۱۴	(۱۳۹) روح کا اپنے آپ کو دیکھنا ملکن ہے۔ خواب بیڑا کی دریانی حالت کو واقعہ کئیں ہے۔ استرات جوں۔ را ب ط جاذب فیض ہوتا ہے۔
۶۲۵	(۱۸۰) اذ کار و اشغال کی ملتین۔ ہنرست جمالیہ کے دبہہ کی تعبیر اور اسی عمل کی ملتین۔ ہنرست جمالیہ کے دبہہ کے فوائد۔	۶۱۵	(۱۳۱) اذ کار و اشغال کی پابندی کی تاکید۔ ایک خواب

۵۹۹	بنا مشی عبد الجیم صاحب (۱۳۲) گرسیوں میں فخر ہر ترک کیا جائے پاس انفاس اور مشغول جاری رہیں۔ قیام نظر کی ترکیب۔	۶۰۸	جو ایمت سے بھکار فرشتہ ہو سکتا ہے۔ نام مولوی نظام الدین جیم صاحب۔
۶۰۰	(۱۳۳) خطرات کے آئے پر اعتنائی کی کوہیت اور قیام تفقر کے متعلق ہدایات۔	۶۰۹	۵۹۰۔ پڑھنے کی تعلیم۔ (۱۱۷) اطوار توحید۔ اعمال جواہر ممالک و محیزدیں
۶۰۱	(۱۳۴) عنایت کے مبدل کرنے کیلئے تفاصیل ضرور ہیں جو تباہیہ کیا جائیں اپنے کار بند رہے۔ (۱۳۵) ذکر سے رو گئی آتی ہے۔ تو احباب کی ضرورت نہیں	۶۱۰	کیا اُرق ہے نام مولوی ترقی علی صاحب۔
۶۰۲	مرد کے مکده جان طریق ثواب ہے۔ (۱۳۶) طالب کی طلب جاذب عنایت ہوتی ہے۔ تبعداً کے مطلب کر شو ہوتا ہے۔	۶۱۱	۵۹۳۔ تیز از دیا و طلب کی باعث ہوتا ہے۔ تبعین و تاشوغی۔ (۱۱۸) خطرات دنیاوی کا آئانہ نہیں ہوتا۔ ایسے خطرات میں انہاک نہ ہونا چاہیے۔
۶۰۳	(۱۳۷) حقیقت یا نہی کی حکمت کافی ہو تو بخوبی جنیش ربی (۱۳۸) عنایت کسی ریاضت پر ہوتا نہیں گر وو ضروہی میں۔ ہماری میں مولات ناعذ ہونے میں مصنفہ نہیں سلکیت اور شروعت کی ہی ساقط نہیں میتی	۶۱۲	۵۹۷۔ (۱۱۹) پرشانیوں کا آئانہ نہیں ہوتا۔ ایسے خطرات پیدا کرتا ہے۔
۶۰۴	(۱۳۹) مشغولی اللہ ہو کا طلاقیہ مشغولی اور امر ایک چیز ہے۔ بندگی اور تقویض کی تعلیم۔	۶۱۳	۵۹۵۔ (۱۲۰) حضرت شاہ نذر الحنفی تلندر و شاہ عماڑہ نہ کر حالات کی نامش مشغول کرنے کی تاکید طالب کی طلب توحید مبدل کر لیتی ہے۔
۶۰۵	(۱۴۰) دن کا خواب قابل تعبیر نہیں ہیں۔ تبہی کیلئے تبہی کیلئے ہے۔	۶۱۴	نام میر برکت علی صاحب۔
۶۰۶	(۱۴۱) ذکر نفی و اخیات کے متعلق چند ہدایات بنا مشی عبد الجیم صاحب	۶۱۵	۵۹۶۔ (۱۲۱) حضرت امام ابوحنیفہ کو حضرت امام جعفر صادقؑ سے صحیح اور حضرت داود طالبؑ سے سیمت تھی۔

۶۲۸	(۱۵۰) آوازیں سننا اثرات ذکر سے ہے۔ لیک خواب کی تبیر قصور مرشد کے دل طریقے۔
۶۲۹	(۱۵۱) آواز مسلم علیک سننا و جنبش شدید ہوتا ذکر کے اثرات سے ہے۔
۶۳۰	(۱۵۲) ذکر کے اوقات و تعداد کا تین۔
۶۳۱	(۱۵۳) انوار برگنگ گلابی حسوس ہوتا۔
۶۳۲	(۱۵۴) ذکر اور شفونی میں آوازیں سنائی دینا۔
۶۳۳	(۱۵۵) طلب حق میں کسی ہمول کو خستی اور نیک بند ترک ذکرنا چاہئے۔ حالات کیفیات کھلی کیاں نہیں متوحدہ ہونا چاہئے۔
۶۳۴	(۱۵۶) ذکر شغل وغیرہ یاد حفظ اور عفان حق کیلئے ہیں
۶۳۵	(۱۵۷) امراقبہ وغیرہ پاسقاہت صدری پر شفونی احاطہ ذات کا تعلق یادداشت سے ہے۔
۶۳۶	(۱۵۸) امراقبہ وغیرہ پاسقاہت صدری پر شفونی کام میں ملتے ہیں۔ حضرت سید جمال مجرداد حضرت بایزید سلطانی کا ذکر۔
۶۳۷	(۱۵۹) ذکر اور شفونی میں جملکیہ آنے سلوک کی غرض۔
۶۳۸	(۱۶۰) ذکر اور شفونی کی تعلیم اور رمضان شریعت میں ذکر کی تخفیف۔
۶۳۹	(۱۶۱) حسپ جال افہام و تفہیم۔ سُمْ ذَاتِ قَلْمَبِ بُرْسَکِ
۶۴۰	بُشَارَتٍ پَيْرٍ وَرَشَدٍ بُرْدِیْسَیْلَے جو مناسب سمجھتا ہے دہی کرتا ہے۔
۶۴۱	(۱۶۲) توحید و تفرقہ کے اثرات۔ برائیہ ہوا ظاہر ہر ہوا بی طن۔ انماقیں کا علم۔
۶۴۲	(۱۶۳) رمضان شریعت میں شفونی کافی ہے اور ذکر کرنے جس سرم خود ہی ذکر ہے۔
۶۴۳	(۱۶۴) امور متذکرہ ہر دو مکتب سابقہ کی تنبیہات
۶۴۴	(۱۶۵) امور متذکرہ ہر دو مکتب سابقہ کی تنبیہات کا اعادہ۔ نماز میں نکھیں بند ہو جانا۔
۶۴۵	نام مولوی حافظ محمد تقیو صاحب انتیق
۶۴۶	(۱۶۶) حضرت شاہ بنیاد قائد کمزار پڑھنیہ شنکہ کا ذکر۔ ایک شرعاً مطلب۔
۶۴۷	(۱۶۷) ذکر رنگ کی نعماد اور وقت۔
۶۴۸	کرامات و واردات
۶۴۹	تمہید دریان شرعیت و خفیقت کرامات
۶۵۰	سید نظر حسین صاحب کی بیان
۶۵۱	(۱۶۸) یہ تعلقی از دولت دنیا پر تدقیق یعنی بالصریت اثرات خواہ طبق متعلق بر داقہ سید محمد علی دہلوی
۶۵۲	مولوی حبیم حافظ علی الحیم صاحب کی بیان
۶۵۳	(۱۶۹) ذکر فتنی و تباہت کی تعلیم
۶۵۴	(۱۷۰) موجودہ و ظالعفت پر عمل کی تائید۔
۶۵۵	نام حبیم کمال الدین صاحب۔

۶۲۶	(۱۴۱) کوئی چیز یہ خبر میں ہے وہ شخص کسی حالت
۶۲۷	سے متاثر ہونا چاہئے بلکہ یہ حق میں شفول رہنا چاہئے۔ اور اوراد مشغولی کی تعلیم۔
۶۲۸	نام مرزا سلیمان بیگ صاحب۔
۶۲۹	(۱۴۲) بزرگان دین کی عنایت برکت کا باعث ہے۔ خیالات فاسدہ سے باز رہنا چاہئے۔
۶۳۰	(۱۴۳) امور متذکرہ مکتب سابقہ کی تائید اور تنبیہ کے بارہ میں۔
۶۳۱	(۱۴۴) امور متذکرہ ہر دو مکتب سابقہ کی تنبیہات کا اعادہ۔ نماز میں نکھیں بند ہو جانا۔
۶۳۲	نام مولوی حافظ محمد تقیو صاحب انتیق
۶۳۳	(۱۴۵) حضرت شاہ بنیاد قائد کمزار پڑھنیہ شنکہ کا ذکر۔ ایک شرعاً مطلب۔
۶۳۴	(۱۴۶) ذکر رنگ کی نعماد اور وقت۔
۶۳۵	کرامات و واردات
۶۳۶	تمہید دریان شرعیت و خفیقت کرامات
۶۳۷	سید نظر حسین صاحب کی بیان
۶۳۸	(۱۴۷) یہ تعلقی از دولت دنیا پر تدقیق یعنی بالصریت اثرات خواہ طبق متعلق بر داقہ سید محمد علی دہلوی
۶۳۹	مولوی حبیم حافظ علی الحیم صاحب کی بیان
۶۴۰	(۱۴۸) ایک زیارت صورت شریعت تنبیہ دیاب تختادرت
۶۴۱	نام امیر احمد صاحب علی کی بیان

۱۰	۱۰	(۲۵) زیارت بجالت طیران اور تلقین حدیث الدین ایاز ور الٰہ عبدیت پر پابندی خصوصاً بجالت تکلیف اپنے برادران عزیز کے مرتب کی طلاق شی ایوب حمد صاحب کا بیان حق تعالیٰ کے فاعل حقیقی ہرنے کا عقیدہ لکھنے کا فائدہ - دفع مرض بجائت جمیع بحاب مرشد مشی یوسف حسن صاحب کا بیان آپکی نسلت و محیت تغیر صورت سے متاثر ہو گئے۔ مشی علی احمد صاحب کا بیان کشف خاطر اور خطرہ بر پرتبیہ نادیب آپکی توجیہ سے بلا وہم و گمان جائیدا کاملنا۔ تو جو براۓ دفع پرشیانی دربارہ معاش - ہر جگہ اور ہر طرف آپ کا دیدار ہونا۔ تبیہ براۓ نماز - مولوی سین الدین حسن کا بیان نمایہ کیلئے تنبیہ - مشی شفیع الدین صاحب کا بیان بیت طلاقیت کی صورت پر کی تلاش آپ سے عقیدت پیدا ہونا بیت کے متعلق	۴۰۰ ۴۰۱ ۴۰۲ ۴۰۳ ۴۰۴ ۴۰۵ ۴۰۶ ۴۰۷ ۴۰۸
۱۱	۱۱	۱۰	۱۰
۱۲	۱۲	۱۰	۱۰
۱۳	۱۳	۱۰	۱۰
۱۴	۱۴	۱۰	۱۰
۱۵	۱۵	۱۰	۱۰
۱۶	۱۶	۱۰	۱۰
۱۷	۱۷	۱۰	۱۰
۱۸	۱۸	۱۰	۱۰
۱۹	۱۹	۱۰	۱۰
۲۰	۲۰	۱۰	۱۰
۲۱	۲۱	۱۰	۱۰
۲۲	۲۲	۱۰	۱۰
۲۳	۲۳	۱۰	۱۰
۲۴	۲۴	۱۰	۱۰
۲۵	۲۵	۱۰	۱۰
۲۶	۲۶	۱۰	۱۰
۲۷	۲۷	۱۰	۱۰
۲۸	۲۸	۱۰	۱۰
۲۹	۲۹	۱۰	۱۰
۳۰	۳۰	۱۰	۱۰
۳۱	۳۱	۱۰	۱۰
۳۲	۳۲	۱۰	۱۰
۳۳	۳۳	۱۰	۱۰
۳۴	۳۴	۱۰	۱۰
۳۵	۳۵	۱۰	۱۰
۳۶	۳۶	۱۰	۱۰
۳۷	۳۷	۱۰	۱۰
۳۸	۳۸	۱۰	۱۰
۳۹	۳۹	۱۰	۱۰
۴۰	۴۰	۱۰	۱۰
۴۱	۴۱	۱۰	۱۰
۴۲	۴۲	۱۰	۱۰
۴۳	۴۳	۱۰	۱۰
۴۴	۴۴	۱۰	۱۰
۴۵	۴۵	۱۰	۱۰
۴۶	۴۶	۱۰	۱۰
۴۷	۴۷	۱۰	۱۰
۴۸	۴۸	۱۰	۱۰
۴۹	۴۹	۱۰	۱۰
۵۰	۵۰	۱۰	۱۰
۵۱	۵۱	۱۰	۱۰
۵۲	۵۲	۱۰	۱۰
۵۳	۵۳	۱۰	۱۰
۵۴	۵۴	۱۰	۱۰
۵۵	۵۵	۱۰	۱۰
۵۶	۵۶	۱۰	۱۰
۵۷	۵۷	۱۰	۱۰
۵۸	۵۸	۱۰	۱۰
۵۹	۵۹	۱۰	۱۰
۶۰	۶۰	۱۰	۱۰
۶۱	۶۱	۱۰	۱۰
۶۲	۶۲	۱۰	۱۰
۶۳	۶۳	۱۰	۱۰
۶۴	۶۴	۱۰	۱۰
۶۵	۶۵	۱۰	۱۰
۶۶	۶۶	۱۰	۱۰
۶۷	۶۷	۱۰	۱۰
۶۸	۶۸	۱۰	۱۰
۶۹	۶۹	۱۰	۱۰
۷۰	۷۰	۱۰	۱۰
۷۱	۷۱	۱۰	۱۰
۷۲	۷۲	۱۰	۱۰
۷۳	۷۳	۱۰	۱۰
۷۴	۷۴	۱۰	۱۰
۷۵	۷۵	۱۰	۱۰
۷۶	۷۶	۱۰	۱۰
۷۷	۷۷	۱۰	۱۰
۷۸	۷۸	۱۰	۱۰
۷۹	۷۹	۱۰	۱۰
۸۰	۸۰	۱۰	۱۰
۸۱	۸۱	۱۰	۱۰
۸۲	۸۲	۱۰	۱۰
۸۳	۸۳	۱۰	۱۰
۸۴	۸۴	۱۰	۱۰
۸۵	۸۵	۱۰	۱۰
۸۶	۸۶	۱۰	۱۰
۸۷	۸۷	۱۰	۱۰
۸۸	۸۸	۱۰	۱۰
۸۹	۸۹	۱۰	۱۰
۹۰	۹۰	۱۰	۱۰
۹۱	۹۱	۱۰	۱۰
۹۲	۹۲	۱۰	۱۰
۹۳	۹۳	۱۰	۱۰
۹۴	۹۴	۱۰	۱۰
۹۵	۹۵	۱۰	۱۰
۹۶	۹۶	۱۰	۱۰
۹۷	۹۷	۱۰	۱۰
۹۸	۹۸	۱۰	۱۰
۹۹	۹۹	۱۰	۱۰
۱۰۰	۱۰۰	۱۰	۱۰

۶۰۵	۶۰۵	۶۰۵	۶۰۵
۶۰۶	۶۰۶	۶۰۶	۶۰۶
۶۰۷	۶۰۷	۶۰۷	۶۰۷
۶۰۸	۶۰۸	۶۰۸	۶۰۸
۶۰۹	۶۰۹	۶۰۹	۶۰۹
۶۱۰	۶۱۰	۶۱۰	۶۱۰
۶۱۱	۶۱۱	۶۱۱	۶۱۱
۶۱۲	۶۱۲	۶۱۲	۶۱۲
۶۱۳	۶۱۳	۶۱۳	۶۱۳
۶۱۴	۶۱۴	۶۱۴	۶۱۴
۶۱۵	۶۱۵	۶۱۵	۶۱۵
۶۱۶	۶۱۶	۶۱۶	۶۱۶
۶۱۷	۶۱۷	۶۱۷	۶۱۷
۶۱۸	۶۱۸	۶۱۸	۶۱۸
۶۱۹	۶۱۹	۶۱۹	۶۱۹
۶۲۰	۶۲۰	۶۲۰	۶۲۰
۶۲۱	۶۲۱	۶۲۱	۶۲۱
۶۲۲	۶۲۲	۶۲۲	۶۲۲
۶۲۳	۶۲۳	۶۲۳	۶۲۳
۶۲۴	۶۲۴	۶۲۴	۶۲۴
۶۲۵	۶۲۵	۶۲۵	۶۲۵
۶۲۶	۶۲۶	۶۲۶	۶۲۶
۶۲۷	۶۲۷	۶۲۷	۶۲۷
۶۲۸	۶۲۸	۶۲۸	۶۲۸
۶۲۹	۶۲۹	۶۲۹	۶۲۹
۶۳۰	۶۳۰	۶۳۰	۶۳۰
۶۳۱	۶۳۱	۶۳۱	۶۳۱
۶۳۲	۶۳۲	۶۳۲	۶۳۲
۶۳۳	۶۳۳	۶۳۳	۶۳۳
۶۳۴	۶۳۴	۶۳۴	۶۳۴
۶۳۵	۶۳۵	۶۳۵	۶۳۵
۶۳۶	۶۳۶	۶۳۶	۶۳۶
۶۳۷	۶۳۷	۶۳۷	۶۳۷
۶۳۸	۶۳۸	۶۳۸	۶۳۸
۶۳۹	۶۳۹	۶۳۹	۶۳۹
۶۴۰	۶۴۰	۶۴۰	۶۴۰
۶۴۱	۶۴۱	۶۴۱	۶۴۱
۶۴۲	۶۴۲	۶۴۲	۶۴۲
۶۴۳	۶۴۳	۶۴۳	۶۴۳
۶۴۴	۶۴۴	۶۴۴	۶۴۴
۶۴۵	۶۴۵	۶۴۵	۶۴۵
۶۴۶	۶۴۶	۶۴۶	۶۴۶
۶۴۷	۶۴۷	۶۴۷	۶۴۷
۶۴۸	۶۴۸	۶۴۸	۶۴۸
۶۴۹	۶۴۹	۶۴۹	۶۴۹
۶۵۰	۶۵۰	۶۵۰	۶۵۰
۶۵۱	۶۵۱	۶۵۱	۶۵۱
۶۵۲	۶۵۲	۶۵۲	۶۵۲
۶۵۳	۶۵۳	۶۵۳	۶۵۳
۶۵۴	۶۵۴	۶۵۴	۶۵۴
۶۵۵	۶۵۵	۶۵۵	۶۵۵
۶۵۶	۶۵۶	۶۵۶	۶۵۶
۶۵۷	۶۵۷	۶۵۷	۶۵۷
۶۵۸	۶۵۸	۶۵۸	۶۵۸
۶۵۹	۶۵۹	۶۵۹	۶۵۹
۶۶۰	۶۶۰	۶۶۰	۶۶۰
۶۶۱	۶۶۱	۶۶۱	۶۶۱
۶۶۲	۶۶۲	۶۶۲	۶۶۲
۶۶۳	۶۶۳	۶۶۳	۶۶۳
۶۶۴	۶۶۴	۶۶۴	۶۶۴
۶۶۵	۶۶۵	۶۶۵	۶۶۵
۶۶۶	۶۶۶	۶۶۶	۶۶۶
۶۶۷	۶۶۷	۶۶۷	۶۶۷
۶۶۸	۶۶۸	۶۶۸	۶۶۸
۶۶۹	۶۶۹	۶۶۹	۶۶۹
۶۷۰	۶۷۰	۶۷۰	۶۷۰
۶۷۱	۶۷۱	۶۷۱	۶۷۱
۶۷۲	۶۷۲	۶۷۲	۶۷۲
۶۷۳	۶۷۳	۶۷۳	۶۷۳
۶۷۴	۶۷۴	۶۷۴	۶۷۴
۶۷۵	۶۷۵	۶۷۵	۶۷۵
۶۷۶	۶۷۶	۶۷۶	۶۷۶
۶۷۷	۶۷۷	۶۷۷	۶۷۷
۶۷۸	۶۷۸	۶۷۸	۶۷۸
۶۷۹	۶۷۹	۶۷۹	۶۷۹
۶۸۰	۶۸۰	۶۸۰	۶۸۰
۶۸۱	۶۸۱	۶۸۱	۶۸۱
۶۸۲	۶۸۲	۶۸۲	۶۸۲
۶۸۳	۶۸۳	۶۸۳	۶۸۳
۶۸۴	۶۸۴	۶۸۴	۶۸۴
۶۸۵	۶۸۵	۶۸۵	۶۸۵
۶۸۶	۶۸۶	۶۸۶	۶۸۶
۶۸۷	۶۸۷	۶۸۷	۶۸۷
۶۸۸	۶۸۸	۶۸۸	۶۸۸
۶۸۹	۶۸۹	۶۸۹	۶۸۹
۶۹۰	۶۹۰	۶۹۰	۶۹۰
۶۹۱	۶۹۱	۶۹۱	۶۹۱
۶۹۲	۶۹۲	۶۹۲	۶۹۲
۶۹۳	۶۹۳	۶۹۳	۶۹۳
۶۹۴	۶۹۴	۶۹۴	۶۹۴
۶۹۵	۶۹۵	۶۹۵	۶۹۵
۶۹۶	۶۹۶	۶۹۶	۶۹۶
۶۹۷	۶۹۷	۶۹۷	۶۹۷
۶۹۸	۶۹۸	۶۹۸	۶۹۸
۶۹۹	۶۹۹	۶۹۹	۶۹۹
۷۰۰	۷۰۰	۷۰۰	۷۰۰
۷۰۱	۷۰۱	۷۰۱	۷۰۱
۷۰۲	۷۰۲	۷۰۲	۷۰۲
۷۰۳	۷۰۳	۷۰۳	۷۰۳
۷۰۴	۷۰۴	۷۰۴	۷۰۴
۷۰۵	۷۰۵	۷۰۵	۷۰۵
۷۰۶	۷۰۶	۷۰۶	۷۰۶
۷۰۷	۷۰۷	۷۰۷	۷۰۷
۷۰۸	۷۰۸	۷۰۸	۷۰۸
۷۰۹	۷۰۹	۷۰۹	۷۰۹
۷۱۰	۷۱۰	۷۱۰	۷۱۰
۷۱۱	۷۱۱	۷۱۱	۷۱۱
۷۱۲	۷۱۲	۷۱۲	۷۱۲
۷۱۳	۷۱۳	۷۱۳	۷۱۳
۷۱۴	۷۱۴	۷۱۴	۷۱۴
۷۱۵	۷۱۵	۷۱۵	۷۱۵
۷۱۶	۷۱۶	۷۱۶	۷۱۶
۷۱۷	۷۱۷	۷۱۷	۷۱۷
۷۱۸	۷۱۸	۷۱۸	۷۱۸
۷۱۹	۷۱۹	۷۱۹	۷۱۹
۷۲۰	۷۲۰	۷۲۰	۷۲۰
۷۲۱	۷۲۱	۷۲۱	۷۲۱
۷۲۲	۷۲۲	۷۲۲	۷۲۲
۷۲۳	۷۲۳	۷۲۳	۷۲۳
۷۲۴	۷۲۴	۷۲۴	۷۲۴
۷۲۵	۷۲۵	۷۲۵	۷۲۵
۷۲۶	۷۲۶	۷۲۶	۷۲۶
۷۲۷	۷۲۷	۷۲۷	۷۲

(۱۱۱) ادیار اشٹر کے مزار پر حاضری کا فائدہ۔	چودہ ہر صمام علی صنا کا بیان	۷۴
(۱۱۲) ادیتہ مدرستہ بھی جاذب توجیہ ہوتی ہے۔	(۱۱۳) حصول معاش بذریعہ توجیہ۔	۷۵
مشی غلام غوث صاحب کا بیان	(۱۱۴) ریل کے وقت گزر جائے کا واقعہ۔	۷۶
(۱۱۳) غائبانہ استعمالے توجیہ پر انواع حاجت	(۱۱۵) استمداد پر صیت سے نجات	"
مشی مدد حسن صاحب کا بیان	مشی عبد النور صاحب کا بیان	"
(۱۱۴) واقعہ عجیب۔ آپ کی توجیہ سے آسیب کا دفعہ	(۱۱۶) جنات کے اڑات۔ انکی ہدایت کہ پ سے	۷۸
مشی امیر حسن صاحب کا بیان	بیت کرنا چاہیئے۔	"
(۱۱۵) خلاف امیر حاجت باری (مقدمہ میں کامیابی)	(۱۱۷) واقعہ عجیب۔ آپ کی ہدایت کی تعمیل میں جن کا شہر	۵۲
"	(۱۱۸) بے ادبی پرچن مکاتیہ کرنا۔	۷۱
"	(۱۱۹) دفعہ اثر آسیب۔	۳۲
(۱۱۶) " " " دلباز زیریما نہ ملتا۔	"	۵۳
(۱۱۷) بیلیات سے حفاظت۔	"	"
مرزا محمد نجمی صاحب کا بیان	"	"
(۱۱۸) طریق آزادیہ دینے کے موقع پر چارابر کا	مشی اجتماع علی صاحب کا بیان	۵۲
سقایا کرنے کی سند۔	(۱۱۹) آپ کی طرف رجوع کرنے سے مرض کا دفعہ	"
(۱۱۹) دفعہ مرض بذریعہ تصرف۔	(۱۲۰) بیت کیلئے رادت محبت۔ عقدہ ہدایت کے بعد	۵۵
مرزا میلم بیگ صاحب کا بیان	آپ کا دفعہ تھیں کرنا اور انکے فوائد۔	"
(۱۲۱) آپ کی توجیہ سے کیفیت ماطلبی کا اعادہ (شاہ	(۱۲۱) وصال کے بعد رجوع کیلئے اشارہ	۲۵
غایت اللہ طیبی کا دفعہ)	مشی خلیل الرحمن صاحب کا بیان	"
عبداللہ شاہ کا بیان	(۱۲۲) معرفت رسان چیز سے نقصان ہو چکا۔	۷۶
(۱۲۲) ایک بڑگ کے کشف پر کاکوری کی حاصل	مشی سراج احمد صاحب کا بیان	"
تحبد امثال کا مظاہرو۔	"	"

(۱۲۳) انجام حاجت بذریعہ تصرف و توجیہ	چودہ ہر صمام علی صنا کا بیان	۷۶
(۱۲۴) خلاف وعدگ کی سزا سے بہت بذریعہ توجیہ و لصڑ	چودہ ہری نبی احمد صاحب کا بیان	"
مرشد کلکشیں کا واقعہ)	(۱۲۵) خلاف وعدگ کی سزا سے بہت بذریعہ توجیہ و لصڑ	"
(۱۲۵) آپ کی زیارت کی بہت سے نکستہ و منہم مکان	(۱۲۶) انجام حاجت بذریعہ تصرف	۱۸
کی درستی۔	(۱۲۷) بشارت و پامیتہ دربارہ اصلاح حال	"
(۱۲۶) مولوی اکبر علی صاحب کی عقیدت کا تذکرہ	شیخ امام الدین حیدر صاحب کا بیان	۱۹
لصڑ، آپ نے ہر دو بارہ لکھریز کے متعلق ارشاد۔	(۱۲۸) آپ کی توجیہ سے واردات و کیفیات کا درود۔	۲۰
(۱۲۷) آئندہ رابطہ قائم کرنے کے متعلق ہدایت۔	(۱۲۹) ایک مجدد ب صاحب کی توجیہ کا اثر اور آپ کے	۲۵
چودہ ہری فضل عظیم صاحب کا بیان	نیض سے اصلاح حال۔	"
(۱۲۸) انجام حاجت بذریعہ توجیہ۔	(۱۳۰) آپ کی توجیہ سے ایک دغدغہ سے نجات۔	۲۴
(۱۲۹) دفعہ مرض	شیخ عزیز الدین حیدر صاحب کا بیان	"
(۱۳۰) ولادت فرزند کی بشارت۔	(۱۳۱) بیعت کے قبل ارادت کامل پیکارنا چاہیئے۔	۲۶
(۱۳۱) علاوه اپنے خاندان کے کسی اور کی تعلیم پر	(۱۳۲) " " " "	"
کرنے سے احتراز کی ہدایت	(۱۳۳) ہدایت دربارہ حفظ مراتب۔	"
چودہ ہری حسن صنا کا بیان	شاه حسین عالم صاحب کا بیان	"
(۱۳۲) مولوی نیاز احمد صاحب کا بیان	(۱۳۴) ولادت فرزند کی بشارت۔	۲۹
(۱۳۳) اتفاق اکیفیت انساط و مسرور بوق حزن ملال	شیخ حسین عالم صاحب کا بیان	"
(۱۳۴) اطبائی تشخیص کے خلاف ارشاد اور اس کا ثبوت	(۱۳۵) مولوی نیاز احمد صاحب کا بیان	"
(۱۳۵) کشف قلوب (ہیرے کے گھن کم ہونی کا دفعہ)	چودہ ہری سفتح علی صاحب کا بیان	"
(۱۳۶) دفعہ مرض بذریعہ تصرف و توجیہ۔	(۱۳۶) دفعہ مرض بذریعہ تصرف و توجیہ۔	"

خانقاہ حضرت سلطان الحجوبین رح		وے، نجساد دار واحنا کا منظہ بہرہ۔	۶۴
تمہید	۸۵	حکایت ولیہ کا ملی معروف پڑھنا، معاشرہ کیفیت	۶۵
جنابے لامولوی شاہ محمد تقیٰ حیدر قلندر کا حال	۸۹	طوات کو یعنی ظلم برپا کئے حضرت علام اور (منقول از	۶۶
مشیٰ دہاج الدین صاحب کا حال	۱۰۱	کتابہ تائب العارفین)	۶۷
شاہ محمد لیں صاحب کا حال	۱۰۴	(۱۳۲) تسبیح کا عطا فرمائی۔	۶۸
مولوی وصیٰ علی صاحب حلوبی کا حال	۱۰۹	(۱۳۳) حضرت علام شکلِ شاک زیارت اور تکالیف کا	۶۹
شاہ اسد اش صاحب جہونگی کا حال	۱۱۰	چراغ جلانا۔	۷۰
شاہفضل علی صاحب کا حال	۱۱۷	(۱۳۴) حضرت علام شکلِ شاک زیارت کا ثبوت	۷۱
محرس طوی محمد علی حیدر کا حال	۱۲۶	(۱۳۵) آپکی زیارت بطور تجدید انشاء اور رکا کا ارشاد	۷۲
سترشدین حضرت سلطان الحجوبین رح	۱۲۶	خشودی ہلت۔	۷۳
سترشدین سماقت	۱۲۶	(۱۳۶) داقہ دیاں نزلت سونا بائی زبانی زنے حصہ حال	۷۴
مشیٰ تاج الدین صاحب کا حال	۱۲۹	(۱۳۷) آپکی محتیا بے متعاف حضرت علام شکلِ شاک کا ارشاد	۷۵
مولوی دسیم الدین صاحب کا حال	۱۳۶	(۱۳۸) آپکی ہدایت کہ آپکے بعد یہ سے جو بع دیا جائے۔	۷۶
مولوی محمد ہاشم صاحب کا حال	۱۳۶	(۱۳۹) آپکی توجہ سے مبینی کے یک ان دیرا جہاں بیجاں	۷۷
مشیٰ شکور احمد صاحب کا حال	۱۳۶	(۱۴۰) داقع تجھیبہ سنبھی کے ایسے بجومی کا کیسہ بہت قدمی	۷۸
بابو اودھ بہاری لال صاحب کا حال	۱۳۶	کندڑی کے مطابق آپکے مراتب اور اقدار بیان کرنا۔	۷۹
حکیم عبدالرحیم خاں صاحب کا حال	۱۳۶	(۱۴۱) اس تکالیف کی مدت کو اسکلکٹشائیکی بہت کی	۸۰
سترشدین حال		تعلیل میں ان کا کام کوئی آگرا پہنچے وار دات لکھوتا۔	۸۱
مشیٰ سراج الدین صاحب کا حال	۱۴۳	تسبیح فرائیا لیڈ بارہ اختیافت کرامات اور مشنی پیغت	۸۲
نواب عبداللہ یحییٰ خاں صاحب کا حال	۱۴۶	کی ایک حکایت کہ شخص کی شہزاداد کے واقعی ایکو	۸۳

ر(۱۳۳) ارکان ذکر میں جملہ حادیۃ الرشد اذ شعر جلت۔	۶۴	میاں دین محمد کا بیان	۵۶
المیہشی ایوب محمد صاحب کا بیان	۶۵	ر(۱۳۴) تجدید انشاء کا منظہ بہرہ۔	۵۷
(۱۳۵) آپکی توجیہ سے محنت اسراہن سے صحبت پانی۔	۶۶	المیہشی عبد الرحمن صاحب کا بیان	۵۸
المیہشی عبد الرحمن صاحب کا بیان	۶۷	(۱۳۶) نقصان اور پریشانی سے تحفظ بذریعہ تصرف۔	۵۹
کرنے پاؤں کا دفعہ فیض۔	۶۸	میاں عبد الرحیم کا بیان	۶۰
(۱۳۷) ارشاد شعر ترب رانی جملت۔	۶۹	ر(۱۳۷) تکلیل وقت میں بھی مسافت بیکرنا۔	۶۱
المیہشی محمد صاحب صاحب کا بیان	۷۰	(۱۳۸) حاجت روایتی بذریعہ توجیہ و تصرف۔	۶۲
(۱۳۸) تنگ دلت کو دعست دیتا۔	۷۱	میاں عہد علی کا بیان	۶۳
ر(۱۳۹) آپکی توجیہ سے زبر کا اثر دفعہ ہونا۔	۷۲	(۱۳۹) کشف خواطر اور دفعیہ خطرات۔	۶۴
ر(۱۴۰) اپکی ہدایت میں ناکامی اور بالآخر آپکی نیت	۷۳	میر حامد علی کا بیان	۶۵
ہی سے عقیدت پیدا ہونا اور آپ سے بیعت کرنا۔	۷۴	ر(۱۴۱) اتنا شر شدید میں ناکامی اور بالآخر آپکی نیت	۶۶
المیہشی ابو حسن صاحب کا بیان	۷۵	آپ سے غائبانہ استداد پر غنیمانی سے نجات پانی۔	۶۷
(۱۴۲) آپکی توجیہ سے مرض کا دفعہ ہونا۔	۷۶	عبدال قادر رخاں کا بیان	۶۸
المیہشی لطیف جس من صنا کا بیان	۷۷	ر(۱۴۳) اتنا شر شدید حضرت شاہ مینا صاحب کا	۶۹
ر(۱۴۳) آپکی توجیہ سے مرض سے صحبت پانی۔	۷۸	خواب میں رہنمائی کرنا۔	۷۰
مس سونا بائی ایرانی کا بیان	۷۹	حشمت ملی خاں کا بیان	۷۱
(۱۴۴) اپنی حاضری کا واقعہ۔	۸۰	ر(۱۴۴) شاہ کا قائل نہ ہے پر آپکی خواب میں زیارت تنبیہ	۷۲
(۱۴۵) کھاتے پینے کی چیزوں کا بطریق خرق عاد میرزا	۸۱	عبداللطیف خاں کا بیان	۷۳
ر(۱۴۶) آپ کا مریبوں کی خبر گیری کرنا۔	۸۲	چھنگا کا بیان	۷۴

٨٣٨	مولوی عمران احمد صاحب کا حوال
٨٥٠	نشی محمد نذر صاحب کا حوال
٨٥٢	حکیم مولوی مسعود احمد صاحب کا حوال
٨٥٣	مولوی ضی علی صاحب کا حوال
٨٥٥	مولوی سعی علی صاحب کا حوال
٨٥٦	نشی حبیل احمد صاحب کا حوال
٨٥٩	مولوی ضیا الدین جیدر صاحب کا حوال
٨٦٢	مولوی محمد حسن صاحب کا حوال
٨٦٥	مولوی نظام الدین جیدر صاحب کا حوال
٨٦٦	مولوی محمد عاصم صاحب کا حوال
٨٦٨	مولوی محمد عالم صاحب کا حوال
٨٧٠	نشی محمد حبود صاحب کا حوال
٨٧١	مولوی مرتضی علی صاحب کا حوال
٨٧٣	شیخ امام الدین میدر صاحب کا حوال

تمہرے بابا الخیر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَاللّٰهُمَّ إِنِّي أَمْنَعُ أَنْتَ لِجَنَاحِيَّةِ الْمُنْكَرِ

وَالْغَيْثَيَّاتِ الْمُجْرِيَّاتِ

بِحَمْوَدَهُ طَهُرَ حَرَضَتْ لَامِعَ النُّورَ بِرَبِّ الْأَمْوَالِ تَبَّعَتْ فَهَبَتْ مَاهِشَتْ بَرِضَائِينَ عَمَّا يَبْيَسُهُ

الْغَنَمُ الْعَرَبِيُّونَ كَرَّ الْجَنَدِيَّاتِ

معروف بِاسْمِ نادِيَّتِي

مَكْرُ حَسَدِيُّ

حَصَّةُ دَمِ

دِرِیانِ محاسِنْ حَضَرَتْ يَوْمِي مِلَانِ صَطْفُونِي حَالَ تَصْرُوِي الْخَضَالَ تَوْزُّوَ الشَّجَرِيَّاتِ وَالْجَمَالِ
مَرَأَةُ إِيَّاهُ كَرِيمَةُ وَسَوْقِيَّاتِ اللَّهِ بَقْوَمُ حَمِيمٍ وَمَجْوَذَاتِهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لَعْنَةُ عَالَمِ الْكَافِرِينَ
يَحَاذِرُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةِ الْأَكْبَرِ وَالْأَنْوَنِ
شِيخَنَا وَسَيِّدَنَا شَاهِ مُحَمَّدِ حَبِيبِيَّ

سَلَالَةِ الْمُجِينِ سَلَطَانِ الْمُجْوِينِ وَخَلَاصَةِ الْمُجْوِينِ بُرَانِ الْمُطْلَقِ لِلْمُجْوِينِ مَذَرِ صُورَةِ الْأَيَّالِ الْأَنُورِ
مولانا مولوی حافظ شاہ محمد علی حبیب قلنَّ لازِ الْوَسْتَسِ وَسَكَنَ لَارَ الْفَلَوْزِ

بَاهْتَمَمْ

بَنَدَهُ عَاجِزَنَابِلَدَ جَادَهُ عَقِيدَتِ ثَنَاسِیِّ مُحَمَّدِ عَبْدِ الرَّوْفِ عَبَاسِیِّ زَادَهُ عَنِ الْمَكَارِ وَالْنَّاسِ

شَرَامَ دَرَّتْ نَنَاتِ لَسِنَ لَهْوَ جَلَوَهُ فَرَزَلَمَ شَرُّ شَرِاءَ

لَيَحْبِبُهُ سَيِّدِيُّ وَلَيَحْمِيُهُ بَلَدِيَّ

الظَّافِرُ

الظَّافِرُ